



نیو یارک شہر کے سائنسی ثقافتی اداروں میں داخلے کے لیے مفت واؤچر۔ یہ واؤچر 4 افراد تک کو داخلہ فراہم کرتا ہے۔

مبارک ہو!

آپ یہ مفت واؤچر اس لیے موصول کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا بچہ کاسائنس استاد ایک اربن ایڈوائس استاد ہے

طلبا 3+ واؤچرز کے لیے عام ہدایات:

1. QBG اور NYBG کے علاوہ، تمام UA ادارے، مقررہ وقت پر داخلے کے وقت کو قبل از وقت محفوظ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پر داخلے کے وقت کو محفوظ کرنے کے لیے براہ کرم ہدایات کو ملاحظہ کریں۔
2. UA کے کچھ ادارے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ مقررہ وقت پر داخلے کے وقت UA واؤچر دکھائیں۔ UA کے تمام ادارے کاغذی اور ڈیجیٹل صورت میں UA واؤچرز قبول کرتے ہیں۔ ہدایات ملاحظہ کریں۔
3. ایک UA واؤچر سے 4 ٹکٹوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
4. واؤچر میں UA اداروں میں پارکنگ شامل نہیں ہے، ماسوا اسٹیٹن آئیلینڈ رو کے۔
5. اپنے استاد سے اضافی واؤچرز کی درخواست کریں۔

ادارے کی جانب سے خاص ہدایات:

امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری

عام داخلے کے ساتھ ایک خاص نمائش کے لیے کارگر ہے۔ ایک مقررہ وقت پر داخلے کو محفوظ کرنے کے لیے واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے AMNH مرکزی تحفظات سے 2020-769-212 پر رابطہ کریں۔ اس سال کے دوران آپ کو واؤچر آئی ڈی نمبر کی ضرورت ہوگی۔ منسوخ کرنے کے لیے اپنے دورے سے ایک دن قبل شام 5 بجے تک 2020-769-212 پر رابطہ کریں یا UA واؤچر کو مستقبل میں استعمال کے لیے کالعدم قرار دیا جائے گا۔

برونکس زو

عام داخلے اور ذیل میں سے ایک کے لیے کارآمد ہے: جنگل ورلڈ (تمام تر سال)، واٹلڈ ایشیاء مونیوریل (مارچ تا اکتوبر)، بٹر فلائی گارڈن (اپریل تا اکتوبر)، یا کونگو گوریل فارست (اپریل تا دسمبر)۔ اس واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی داخلے کی تاریخ اور وقت کو محفوظ کرنے کے لیے www.bbg.org/visit پر جائیں۔ اپنی ٹکٹوں کو آن لائن محفوظ کرنے کے لیے آپ کو واؤچر آئی ڈی نمبر اور اسکول کے نام کی ضرورت ہوگی۔ آن لائن مقررہ وقت محفوظ کر لینے کے بعد، آپ ای میل کے ذریعہ اپنے ٹکٹ موصول کریں گے، جس کو آپ اپنی مقررہ تاریخ اور وقت پر داخلے کے ہوتے پر اپنے موبائل آلے کے ذریعہ دکھائیں گے۔ اپنے مقررہ وقت کو منسوخ کرنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے قبل bzeducation@wcs.org پر ای میل کریں۔

بروکلن بوٹینیکل گارڈن

عام داخلے کے لیے کارآمد ہے۔ 14 سال سے کم عمر بچوں کی نگرانی 18 سال یا بڑی عمر کے بالغ کے ذریعہ کیے جانا لازمی ہے۔ گارڈن میں داخل ہونے کے لیے قبل از وقت مقررہ وقت پر داخلے کے ٹکٹ مطلوب ہیں۔ واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے ذیل پر جائیں <https://www.bbg.org/visit> تاکہ آپ اپنے داخلے کی تاریخ اور وقت کو محفوظ کر سکیں۔ "Get Tickets" پر کلک کریں اس کے بعد "Not a Member, Buy Tickets" پر کلک کریں (کوئی فیس نہیں لی جائے گی)۔ وقت اور تاریخ کو منتخب کریں اور ٹکٹ محفوظ کرنے کے مینو میں "ملحقہ تنظیم کے ٹکٹوں" کو منتخب کریں۔ اس کے بعد "جیک آؤٹ پر جائیں" آپ ایک تصدیقی ای میل بمعہ QR کوڈ موصول کریں گے جس کو آپ کو آمد کے وقت دکھانا لازمی ہے۔ داخلے کے عمل کو دکھانے کے لیے آپ کے لیے UA طالب علم 3+ "واؤچر کو ساتھ لانا لازمی ہے۔

نیویارک بوٹینیکل گارڈن

NYBG کے بیرونی گارڈن اور مجموعے کے لیے دن کے دوران رسائی کے لیے کارآمد ہے (Enid A. Haupt کٹرونیوری، دی ہالڈیے ٹرین شو اور دیگر خاص نمائشوں تک رسائی فراہم نہیں کرتا ہے)۔ واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے NYBG جائیں اور ٹکٹ ہوتے پر دورے کرنے والے افراد کی خدمات کے نمائندے کو اپنا UA "طالب علم 3+" واؤچر (کی کاغذی یا ڈیجیٹل نقل) دکھائیں۔ آپ مقررہ وقت پر داخلے کے ساتھ اگلا دستیاب گارڈن پاس موصول کریں گے

نیو یارک اکویریم

عام داخلے کے لیے کارآمد ہے۔ اس واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی داخلے کی تاریخ اور وقت کو محفوظ کرنے کے لیے www.wcs.org/visit پر جائیں۔ اپنی ٹکٹوں کو آن لائن محفوظ کرنے کے لیے آپ کو واؤچر آئی ڈی نمبر اور اسکول کے نام کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آن لائن مقررہ وقت محفوظ کر لینے کے بعد، آپ ای میل کے ذریعہ اپنے ٹکٹ موصول کریں گے، جس کو آپ اپنی مقررہ تاریخ اور وقت پر داخلے کے ہوتے پر اپنے موبائل آلے کے ذریعہ دکھائیں گے۔ اپنے مقررہ وقت کو منسوخ کرنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے قبل bzeducation@wcs.org پر ای میل کریں۔

نیویارک ہال آف سائنس

نیو یارک ہال آف سائنس اس وقت UA "طالب علم 3+" واؤچر کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ البتہ، اسکول دن کے دوران UA استاد کے ذریعہ UA کلاس دورے کے واؤچرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کوئٹز بوٹینیکل گارڈن

صرف عام داخلے کے لیے کارآمد واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے QBG جائیں اور اپنا UA "طالب علم 3+" واؤچر (کی کاغذی یا ڈیجیٹل نقل) دکھائیں۔

اسٹیٹن آئیلینڈ زو

تمام نمائشوں میں داخلے کے لیے کارآمد۔ واؤچر کو استعمال کرنے کے لیے ذیل پر جائیں: www.statenislandzoo.org آپ کے لیے داخلے کے دروازے پر آمد کے وقت UA واؤچر (کی کاغذی یا ڈیجیٹل نقل) دکھانا لازمی ہے۔ منسوخ کرنے کے لیے اپنے دورے کے شیڈول کردہ دن سے ایک دن قبل شام 4 بجے تک 718 442-3100 پر رابطہ کریں۔ مفت پارکنگ دستیاب ہے۔ واؤچر کو زو کے معلم اور آپ کی پسند کے جانور کے ساتھ 15 منٹ متعامل براہ رست "ورچوئل انیمل ڈراپ ان" کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جگہ کو <http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/> پر کم سے کم 5 دن قبل از وقت محفوظ کرنا مطلوب ہے اپنے واؤچر کا استعمال کرنے کے لیے جیک آؤٹ پر "UAS+3" (چھوٹے بڑے حروف سے فرق پڑتا ہے)۔ آپ سے واؤچر آئی ڈی نمبر لینے کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا میں درج کسی بھی ادارے کا دورہ کرنے کے لیے واؤچر کو کس طرح استعمال کیا جائے کے بارے میں مزید معلومات اور تازہ ترین خبروں کے لیے ذیل پر جائیں: www.uanyc.science/vouchers

مفت واؤچر

واؤچر آئی ڈی نمبر:

XXXXXXXXXX

اسکول نمبر / نام

استاد

No. of Visitors (Please fill in): ① ② ③ ④

urban advantage

سائنس آغاز کار

دورے کی تاریخ
(برائے کرم مناسب بلبلے کو بھریں)

مہینہ	دن	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ستمبر	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
اکتوبر	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
نومبر	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
دسمبر	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
جنوری	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
فروری	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
مارچ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
اپریل	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
مئی	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
جون	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

کے لیے ذیل کے اداروں میں سے ایک میں داخلہ فراہم کرتا ہے۔ (برائے کرم مناسب بلبلے بھریں)

- ☐ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری
- ☐ بیسٹری
- ☐ برونکس زو
- ☐ بروکلن بوٹینیکل گارڈن
- ☐ نیو یارک اکویریم
- ☐ نیو یارک بوٹینیکل گارڈن
- ☐ نیو یارک ہال آف سائنس
- ☐ کوئٹز بوٹینیکل گارڈن
- ☐ اسٹیٹن آئیلینڈ زو

نقد رقم کی قیمت نہیں ہے - 6/30/2021 کو ختم ہو جائے گا

ناقابل منتقل کاپی یا نقل نہ بنائیں یا دوبارہ استعمال نہ کریں۔ اسکول کے گروپس کے دوروں کے لیے نہیں ہے۔



اربن ایڈونٹج پروگرام کے لیے عوامی مدد نیو یارک شہر کے میئر کے دفتر، اسپیکر اور کونسل برائے نیویارک شہر، اور نیویارک شہر محکمہ تعلیم کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔